

کیا اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے؟

(۱)

علماء دین کے حضور میں

○ جاوید چودھری ○

زادہ صاحب میرے دوست ہیں۔ انہوں نے میرے کالم ”تالاب میں کون سے پہلے“ کے جواب میں مجھے پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے ایک لیپگر کی کاپی بھجوائی۔ پروفیسر صاحب اپریل ۱۹۹۲ء میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی دعوت پر دس روز کے لیے پاکستان تشریف لائے تھے۔ لاہور میں پانچانے ان کے ایک خطاب کا ہتھام کیا۔ اس محفل میں عام شہریوں کے علاوہ ڈاکٹر اسرا راحمد، ڈاکٹر غلام مرتضی ملک، ڈاکٹر صدر محمد، مولانا صلاح الدین، چیف جسٹس انوار الحق، جسٹس محبوب احمد، ایم ظفر، ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی، ڈاکٹر وحید قریشی، ڈاکٹر اقتدار حسن اور عبدالکریم عابد پروفیسر جمیلہ شوکت، نذیر نیازی، اسماعیل قریشی، ڈاکٹر امین اللہ دشیر، ممتاز احمد خان، ڈاکٹر اقتدار حسن اور عبدالکریم عابد صاحب جیسے ممتاز عالم، دانش و را در صحافی بھی موجود تھے۔ خطاب کے آخر میں جب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک صاحب نے سورہ مائدہ کی آیت: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ أُولَئِكَ أَهْلَمُ اور پوچھا: ”ارشاد خداوندی ہے، یہود یوں کو دوست اور ولی نہ بناؤ۔ اس حکم کے حوالے سے یہ بھی ارشاد فرمائیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟“ پروفیسر صاحب نے اس سوال کے جواب میں فرمایا: (میں ان کے الفاظ بیہاں لفظ بلفظ لکھ رہا ہوں) ”قرآن مجید میں ولی کا لفظ ہے، دوست کا نہیں،..... جس کا مطلب میرے خیال میں یہ ہے کہ انہیں حاکم کے طور پر قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اب رہی تعلقات قائم کرنے اور تسلیم کرنے کی بات تو یہ کسی قدر پیچیدہ مسئلہ ہے، اس معنی میں کہ اس معاملے کے کئی پبلو پیش نظر کھنے ہوں گے اور فیصلہ فلسطینی مسلمانوں کی رائے پر ہونا چاہیے کیونکہ بنیادی طور پر یہ مسئلہ اہل فلسطین کا ہے۔ اگر وہ کسی مصلحت کی بنابریا کسی دوسرے فائدے کے پیش نظر یا توی دشمن کی دشمنی کرنے کی کوشش کے طور پر اپنے موقف میں کچھ چک پیدا کریں تو کوئی مضاائقہ نہیں۔ میرا

مشورہ اس بارے میں صرف اتنا ہے کہ جو بات تملک اور قابل حصول ہو، وہ کریں۔ انہوںنے با توں کا مطالبه نہ کریں۔“ پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا یہ خطاب ان کی رحلت کے بعد ایک معروف اردو ماہنامے کے فروری ۲۰۰۳ء کے شمارے میں شائع ہوا۔ یہ خطاب اور لیں صدیقی کے قلم سے قارئین تک پہنچا۔ ولی، کی تشریح پر بنی اقتباس اس کے صفحہ ۲۹ پر درج ہے۔ پروفیسر حمید اللہ صاحب اسلام کے جید عالم، مفکر اور دانش ور تھے۔ انہیں اردو اور انگریزی کے ساتھ ساتھ عربی، فارسی، فرانسیسی، جمنی، ہندی اور اطالوی زبانوں پر بھی عبور تھا۔ انہوں نے قرآن مجید کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا، حیات رسول پر ترکی اور فرانسیسی میں کتب لکھیں۔ انہوں نے ایک سو بیس زبانوں میں قرآن مجید کا فرانسیسی کی ایک بیلیو گرافی بھی مرتب کی۔ یہ انہی کی تحقیق ہے کہ آج دنیا کو معلوم ہے کہ اردو میں قرآن مجید کے تین سو، انگریزی میں ڈیڑھ سو اور فرانسیسی میں ستر ترجمے شائع ہو چکے ہیں۔ پروفیسر صاحب نے اردو میں ۱۲ اور انگریزی میں ۶ شاندار کتب تحریر کیں۔ ۱۹۹۲ء میں آباد ایک ارب ۲۵ کروڑ مسلمانوں میں شاید ہی کوئی شخص ہو جوان کے نام اور کام سے واقف نہ ہو۔ انہیں ۱۶۱ اسلامی ممالک میں وہ توقیر، وہ عزت حاصل ہے جو ایک جید عالم کو حاصل ہونی چاہیے۔ لہذا جب پروفیسر صاحب اپنے خطاب میں ولی، کو دوست کے بجائے حکمران قرار دیتے ہیں تو پھر سارا ”سیناریو“ ہی بدلتا جاتا ہے۔ مجھے اپنی کوتاہ علمی اور کم فنی کا ادراک ہے۔ میں تو شاید قرآن مجید کے مخالیق میں تکمیل کی جائے ہوں، لہذا میں یہ آیت اور اس آیت میں درج ”او لیاء“ کے لفظ کو علماء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں۔ معاملہ بہت ہی حساس اور علمی نوعیت کا ہے کیونکہ صرف ایک لفظ کی تشریح پر نہ صرف آئندہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی جائے گی بلکہ عالم اسلام کے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ تعلقات بھی طے ہوں گے۔ چنانچہ علماء دین آگے بڑھیں اور قوم کی مشکل آسان فرمائیں۔ ہم سب آپ کی رہنمائی چاہتے ہیں لیکن اتنا یاد رہے پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب اس پر کیا فرمائے ہیں۔

معزز قارئین، میں نے کبھی یہ کالم عام بجھت اور خطوط کے لیے عام نہیں کیا۔ میری کس تحریر، کس جسارت پر کیا کیا ر عمل ہوا، میں نے کبھی اس کا اظہار تک نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں، انسان کو پوری ایمان داری سے اپنا فرض ادا کر دینا چاہیے اور اس کے بعد اس کا کیا عمل ہوتا ہے، اس سے لائق ہو جانا چاہیے لیکن میں بہلی بار اس کالم میں علماء کرام کو سورہ مائدہ کی یہود و نصاریٰ والی آیت پر اظہار خیال کی دعوت دیتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ہمارے وہ علماء کرام جو ایسے قومی معاملات پر ہمیشہ چپ سادھے لیتے ہیں، وہ اس بارضور کوئی نہ کوئی واضح اور دوڑک موقف اختیار کریں گے۔ آخر علماء دین پر بھی اس ملک کو اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا فوج، بیور و کریسی، سیاست دانوں اور عوام پر حاصل ہے۔ اگر ہم سب اس ملک کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں تو اس ملک کی فکری اور نرم ہبی سرحدوں